


FÖSSTA



Design and Quality
IKEA of Sweden



English

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

For indoor use only.

This product is not intended for children due to the content of electrical components.

English

Only use batteries that are intended for the product. Do not mix old and new batteries, different brands or types.

English

ALWAYS REMOVE THE BATTERIES BEFORE STORING.

Español

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Para uso en el interior exclusivamente.

Este producto no ha sido diseñado para niños, porque contiene componentes eléctricos.

Español

Utiliza sólo pilas compatibles con el producto. No mezcles pilas nuevas y viejas, ni pilas de marca y tipo distinto.

Español

QUITA SIEMPRE LA BATERÍA ANTES DE GUARDARLO.

Portugues

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Apenas para uso no interior.

Este produto não se destina a crianças devido ao conteúdo dos componentes elétricos.

Portugues

Use somente pilhas adequadas ao artigo. Não misture pilhas novas e antigas, marcas ou tipos diferentes.

Portugues

RETIRE SEMPRE AS PILHAS ANTES DE GUARDAR.

中文

重要安全说明，仅供室内使用。本产品含有电子部件，不适合儿童使用。

中文

仅使用产品规定的配套电池。请勿将新旧电池、不同品牌或类型的电池混合使用。

中文

存放前，必须取出电池。

繁中

重要安全說明

僅適合室內使用。

因產品包含電子零件，不適合兒童使用。

繁中

僅能使用產品專用電池；請勿混合使用新舊電池、不同品牌或類型的電池

繁中

存放前務必拆下電池。

한국어

주요안전지침

실내에서만 사용하세요.

전기 부품이 포함되어있어 어린이가 사용하면 안됩니다.

한국어

제품에 맞는 배터리만 사용하세요. 오래된 배터리와 새 배터리를 함께 사용하지 마세요.

한국어

보관하기 전에는 항상 전지를 분리하세요.

日本語

安全に関する重要なお知らせ

本製品は室内専用です。

この製品には電気部品が含まれているため、お子さまの使用には適しません。

日本語

必ず製品に適した電池をお使いください。古い電池と新しい電池、ブランドや種類の異なる電池を混ぜて使わないでください

日本語

保管するときは必ず電池を取り出してください。

Bahasa Indonesia

PETUNJUK KESELAMATAN PENTING

Hanya untuk penggunaan dalam ruang.

Produk ini tidak ditujukan untuk anak karena terdiri dari komponen listrik.

Bahasa Indonesia

Gunakan hanya baterai yang ditujukan untuk produk. Jangan mencampur baterai lama dan baru, berbagai merek atau tipe.

Bahasa Indonesia

SELALU LEPAS BATERAI SEBELUM DISIMPAN.



Bahasa Malaysia

ARAHAN PENTING KESELAMATAN

Untuk kegunaan di dalam bangunan sahaja.
Produk ini tidak dikhususkan untuk kanak-kanak kerana kandungan komponen elektriknya.

Bahasa Malaysia

Gunakan hanya bateri yang khusus untuk produk ini. Jangan campur bateri lama dan baharu, jenama atau jenis yang berbeza-beza.

Bahasa Malaysia

SELALU TANGGALKAN BATERI SEBELUM DISIMPAN

عربي

تعليمات هامة للسلامة
للاستخدام الداخلي فقط.
هذا المنتج غير مصمم للأطفال نظراً لاحتوائه على أجزاء
كهربائية.

عربي

استخدم البطاريات المخصصة للمنتج فقط. لا تخلط بطاريات
قديمة جديدة وعلامات تجارية أو أنواع مختلفة من البطاريات.

عربي

قم بإزالة البطاريات دائماً قبل التخزين.

ไทย

คำแนะนำสำคัญด้านความปลอดภัย สำหรับใช้งานภายในอาคาร
เท่านั้น สินค้าชิ้นนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็ก เนื่องจากมีชิ้นส่วน

ไทย

กรุณาใช้แบตเตอรี่ที่เข้ากันได้กับสินค้าเท่านั้น อย่าใช้แบตเตอรี่
เก่าปนกับแบตเตอรี่ใหม่ หรือใช้แบตเตอรี่ต่างประเทศหรือต่าง
ยี่ห้อในสินค้าเดียวกัน

ไทย

ถอดแบตเตอรี่ออกก่อนนำไปเก็บทุกครั้ง

Tiếng Việt


Chỉ phù hợp để sử dụng trong nhà.
Sản phẩm này không phù hợp cho trẻ em sử dụng
do có các bộ phận điện.

Tiếng Việt


Chỉ sử dụng loại pin phù hợp với sản phẩm. không
sử dụng lẫn lộn pin cũ và pin mới, pin khác loại
hoặc khác thương hiệu.

Tiếng Việt



LUÔN LẤY PIN RA KHỎI SẢN PHẨM TRƯỚC KHI
MANG ĐI CẮT.




1






2



3





English

The timer switches the light off automatically after 6 hours, and switches it back on at the same time next day.

Español

El temporizador apaga automáticamente la luz después de 6 horas y las enciende de nuevo a la misma hora al día siguiente.

Portugues

O temporizador desliga a luz automaticamente após 6 horas e volta a ligá-la à mesma hora no dia seguinte.

中文

计时器在6小时后自动关灯，并在第二天的同一时间开灯。

繁中

計時器在6小時後自動關燈，並在第二天的同一時間開燈。

한국어

타이머가 6시간 후에 자동으로 작동하여 조명 전원이 꺼지고, 다음 날 같은 시각에 다시 켜집니다.

日本語

タイマーで6時間後に自動で消灯します。また、翌日同じ時刻に点灯します。

Bahasa Indonesia

Timer memadamkan lampu secara otomatis setelah 6 jam, dan menyalakannya kembali di waktu dan hari yang sama.

Bahasa Malaysia

Pemasa menutup lampu secara automatik selepas 6 jam, dan memasang ia semula pada masa yang sama pada keesokan harinya.

عربي

يقوم المؤقت بإطفاء الإضاءة تلقائياً بعد 6 ساعات، ويقوم بإعادة تشغيلها مرة أخرى في نفس الوقت في اليوم التالي.

ไทย

ตัวจับเวลาจะปิดไฟอัตโนมัติ หลังไฟทำงานนาน 6 ชั่วโมง และจะเปิดไฟตามเวลาเดิมในวันถัดไป

Tiếng Việt

Bộ hẹn giờ tự động tắt đèn sau 6 giờ, và bật lại vào cùng giờ ngày tiếp theo.